



سوال

اشراق کی نماز، صلاۃ الاوابین اور چاشت کی نماز کیا ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں؟

جواب

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جو نماز سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے لے کر ظہر کے وقت سے تقریباً دس منٹ پہلے تک پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں درج ذیل احادیث آتی ہیں:

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى النَّوَاحِي فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَوْمَئِذٍ فَمَا كَانَ يَدْرِي أَنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَهُ قَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامِيَةً تَامِيَةً تَامِيَةً (سنن ترمذی، أبواب السفر عن رسول اللہ ﷺ: 586) (صحیح)

جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے دو رکعتیں پڑھیں، تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پورا، پورا، پورا، یعنی حج و عمرے کا پورا ثواب۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَىٰ أَرْبَعًا وَيُؤَدِّي نِشَاءَ اللَّهِ (صحیح مسلم: کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها: 719)

رسول اللہ ﷺ چاشت کی نماز چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا زیادہ (بھی) پڑھ لیتے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لِلْحَافِظِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَىٰ الْإِوَابِ، - قال: - وهي صلاة الأوابين (صحیح الترغیب والترہیب: 676)

چاشت کی نماز کی صرف اواب [رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا] ہی پابندی کرتا ہے، اور یہی صلاۃ الاوابین ہے۔

سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا: ہاں یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز اس وقت کی بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

صَلَاةُ الْإِوَابِ مِنْ تَرْمِضِ الْفَضَالِ (صحیح مسلم: کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها: 748)



اَوَّابین (اطاعت گزار، توبہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں) کی نماز اس وقت ہوتی ہے۔ جب (گرمی سے) اونٹ کے دودھ پھٹے جانے والے بچوں کے پاؤں طبلے لگتے ہیں۔

مندرجہ بالا احادیث سے بر بات عیاں ہوتی ہے کہ فجر کے بعد سے ظہر کے پہلے تک تین نمازوں کا ذکر ہے۔ ایک اشراق کی نماز، دوسری چاشت کی نماز اور تیسری اوابین کی نماز۔

اشراق کی نماز بھی چاشت کی نماز ہے۔ اگر انسان سورج نکلنے کے قریب پندرہ منٹ بعد نماز پڑھے، تو اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ اگر اس نماز کے آخری یا درمیانی وقت میں ادا کرے تو یہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے۔ بہر حال ہر دو صورت میں یہ چاشت کی نماز ہی ہے؛ کیونکہ چاشت کی نماز کا وقت سورج کے نیرے کے برابر طلوع ہونے سے لیکر زوال سے کچھ پہلے تک ہوتا ہے۔

صلاة اوابین اور چاشت کی دونوں ایک ہی ہیں۔ اس کا وقت سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے لے کر ظہر کے وقت سے قریباً دس منٹ پہلے تک ہے، اور اس کا افضل ترین وقت تب ہے جب گرمی خوب ہو جائے (یہ وقت زوال سے کچھ دیر پہلے ہوتا ہے)۔

واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ کمیٹی